

News Coverage for Website

November 4, 2024

CCP News

The News

Court upholds CCP's authority in poultry price-fixing case

The Lahore High Court has upheld the Competition Commission of Pakistan's (CCP) authority in regulating competitive practices, particularly in the case of price-fixing of day-old chicks within the poultry sector.

Justice Jawad Hassan dismissed a challenge to the CCP's show-cause notices, reinforcing the Commission's role in safeguarding a fair market environment and curbing monopolistic practices.

Justice Hassan said that show-cause notices, based on inquiry reports, should first be addressed within the CCP's jurisdiction. Referring to the legal concept of 'ripeness', he clarified that judicial intervention is premature before the CCP issues a final decision. This ruling affirms the CCP's autonomy to investigate and regulate anti-competitive behaviours without external obstruction.

The court highlighted that hindering the CCP's work could impair its ability to counteract collusion and promote competitive integrity. Justice Hassan also underscored the judiciary's responsibility to support regulatory bodies like the CCP in their mission to uphold fair business practices across sectors.

In the proceedings, the petitioner's counsel argued that procedural irregularities in the inquiry report invalidated the show-cause notices. However, the CCP's legal team contended that the petition was unmaintainable, a stance the court ultimately endorsed.

The CCP's investigation revealed suspected collusion and price-fixing among hatcheries for day-old broiler chicks from 2019 to mid-2021, with forensic analysis indicating that pricing was coordinated through SMS and WhatsApp communications. An industry association was also implicated for potential involvement in pricing discussions. However, some poultry companies challenged the CCP's notices and obtained a stay order temporarily halting proceedings.

In its press release, the CCP said that "this comprehensive 21-page judgment sets a strong precedent, affirming the CCP's authority to uphold competition laws across Pakistan's economy."

It added that the CCP has strengthened its legal team to address complex regulatory challenges effectively. “This has led to more efficient case handling, with over 40 cases resolved in recent months by the competition appellate tribunal, high courts, and Supreme Court, resulting in the recovery of Rs100 million from entities engaged in anti-competitive practices.”

<https://www.thenews.com.pk/print/1246355-court-upholds-ccp-s-authority-in-poultry-price-fixing-case>

Business Recorder

LHC backs CCP’s role in regulating competition

In a landmark decision, the Lahore High Court, led by Justice Jawad Hassan, has upheld the validity of show-cause notices issued by the Competition Commission of Pakistan (CCP) in the poultry matter concerning price fixing of day-old chicks.

The decision reaffirms CCP’s authority to pursue investigations and act against monopolistic practices, ensuring a competitive market environment.

Justice Jawad Hassan emphasized that a show-cause notice issued on the basis of an inquiry report cannot be prematurely contested in the High Court. Referring to the legal doctrine of “ripeness”, he ruled that cases should proceed through CCP hearings, allowing appeals only after the CCP’s final decision. The judgment clarifies the CCP’s jurisdiction, safeguarding its autonomy to enforce competition laws without undue interference.

Cartelisation charges against poultry feed millers: LHC vacates stay order against CCP show-cause notices

The court noted that obstructing CCP functions could hinder the Commission’s role in preventing anticompetitive practices and promoting fair business competition. Justice Hassan underscored the judiciary’s duty to support regulatory bodies like the CCP in upholding competitive integrity across industries.

Moreover, if the Court starts interfering at initial steps of the Regulator for not initiating inquiry, then it will create hurdle for the Regulator to proceed in the matter to protect the very purpose and object of law. It is settled law by now that this Court, before granting relief to a petitioners by exercising its extraordinary jurisdiction under Article 199 of the “Constitution”, must satisfy itself regarding the nonavailability of any alternate remedy, or in case Court is inclined to grant relief even in presence of alternate remedy, Court should be satisfied that circumstances of the case make the other remedy inadequate.

The petitioner’s counsel argued that there were procedural lapses in the enquiry report; therefore showcause notices should not have been issued. However, the CCP’s legal team, comprising Barrister

AsadUllah Chatha, CCPs legal advisors, Barrister AmbreenAbbasi, Hafiz Muhammad Naeem and Hassan Raza, challenged the maintainability of the petition, a position the court ultimately upheld.

The CCP investigated suspected collusion and price-fixing by eight hatcheries for day-old broiler chicks from 2019 to June 2021. Forensic analysis revealed that prices were coordinated via SMS and WhatsApp by an official of a member firm.

The Pakistan Poultry Association (PPA) was also found in possible violation of Section 4 of the Competition Act for involvement in pricing discussions. However, the poultry companies M/s Sadiq Poultry and M/s Islamabad Feeds challenged the show-cause notices and have secured a stay order, temporarily halting CCP's proceedings. This comprehensive 21-page judgment now stands as a precedent, strengthening the CCP's authority to enforce anti-trust laws and foster fair competition within Pakistan's economic landscape.

CCP Chairman Dr Kabir Sidhu has strategically strengthened the CCP's legal team to enhance its capability in dealing complex competition cases and regulatory challenges. This overhaul has improved efficiency, and prioritized resolution of legal backlogs.

As a result, over 40 cases have been resolved by Competition Appellate Tribunal (CAT), High Courts and Supreme Court of Pakistan. The resolution of cases resulted in recovery of Rs100 million from businesses involved in anti-competitive practices.

<https://www.brecorder.com/news/40330314#:~:text=ISLAMABAD%3A%20In%20a%20landmark%20decision,fixing%20of%20day%2Dold%20chicks.>

Pakistan Today

LHC affirms CCP's power in poultry pricing dispute

In a significant ruling, the Lahore High Court, under the guidance of Justice Jawad Hassan, has reaffirmed the authority of the Competition Commission of Pakistan (CCP) regarding the issuance of show-cause notices related to price fixing in the poultry sector, specifically concerning the sale of day-old chicks.

This ruling reinforces the CCP's mandate to investigate and address monopolistic behaviors, thus promoting a more competitive marketplace. Justice Hassan clarified that challenges to show-cause notices, based on inquiry reports, cannot be made prematurely in the High Court.

Citing the principle of "ripeness," he stated that cases should follow the CCP's hearing process, with appeals permitted only after a final decision by the Commission. This judgment delineates the CCP's jurisdiction, ensuring its independence in enforcing competition regulations without unwarranted interruptions.

The court highlighted that any obstruction of the CCP's functions could impede its vital role in curbing anti-competitive actions and fostering fair business practices.

Justice Hassan also reiterated the judiciary's responsibility to support regulatory bodies like the CCP in maintaining competition across various industries. The petitioner's lawyer raised concerns about procedural errors in the inquiry report, arguing against the issuance of show-cause notices. However, the CCP's legal representatives, including Barrister Asad Ullah Chatha and others, successfully defended the validity of the notices, a stance the court upheld.

The CCP's investigation revealed potential collusion among eight hatcheries regarding day-old broiler chick pricing between 2019 and June 2021. Forensic findings indicated that pricing agreements were coordinated via SMS and WhatsApp among officials from these firms. Additionally, the Pakistan Poultry Association (PPA) was identified as potentially violating Section 4 of the Competition Act by participating in pricing discussions.

Meanwhile, poultry companies Sadiq Poultry and Islamabad Feeds have contested the show-cause notices and received a stay order that temporarily halts the CCP's actions.

This detailed 21-page ruling sets a crucial precedent, bolstering the CCP's capacity to enforce anti-trust legislation and promote fair competition within Pakistan's economy.

CCP Chairman Dr. Kabir Sidhu has also taken steps to enhance the legal team's expertise, enabling a more effective response to complex competition issues and regulatory challenges. This restructuring has led to the efficient resolution of over 40 cases by the Competition Appellate Tribunal, High Courts, and the Supreme Court, resulting in the recovery of Rs 100 million from entities engaged in anti-competitive practices. <https://profit.pakistantoday.com.pk/2024/11/01/lhc-affirms-ccps-power-in-poultry-pricing-dispute/>

Pro Pakistani

LHC Backs CCP's Role in Regulating Competition, Dismisses Challenge

The Lahore High Court, headed by Justice Jawad Hassan, has upheld the validity of show-cause notices issued by the Competition Commission of Pakistan (CCP) in the poultry matter concerning price fixing of day-old chicks.

The decision reaffirms CCP's authority to pursue investigations and act against monopolistic practices, ensuring a competitive market environment, said a press release issued here on Friday.

Justice Jawad Hassan emphasized that a show-cause notice issued on the basis of an inquiry report cannot be prematurely contested in the High Court.

Referring to the legal doctrine of "ripeness", he ruled that cases should proceed through CCP hearings, allowing appeals only after the CCP's final decision.

The judgment clarifies the CCP's jurisdiction, safeguarding its autonomy to enforce competition laws without undue interference.

The court noted that obstructing CCP functions could hinder the Commission's role in preventing anticompetitive practices and promoting fair business competition.

Justice Hassan underscored the judiciary's duty to support regulatory bodies like the CCP in upholding competitive integrity across industries.

The petitioner's counsel argued that there were procedural lapses in the enquiry report; therefore, show cause notices should not have been issued.

However, the CCP's legal team, comprising Barrister Asad Ullah Chatha, CCPs legal advisors, Barrister Ambreen Abbasi, Hafiz Muhammad Naeem and Hassan Raza, challenged the maintainability of the petition, a position the court ultimately upheld.

The CCP investigated suspected collusion and price-fixing by eight hatcheries for day-old broiler chicks from 2019 to June 2021. Forensic analysis revealed that prices were coordinated via SMS and WhatsApp by an official of a member firm.

The Pakistan Poultry Association (PPA) was also found in possible violation of Section 4 of the Competition Act for involvement in pricing discussions.

However, the poultry companies Sadiq Poultry and Islamabad Feeds challenged the show-cause notices and secured a stay order, temporarily halting CCP's proceedings. This comprehensive 21-page judgment now stands as a precedent, strengthening the CCP's authority to enforce anti-trust laws and foster fair competition within Pakistan's economic landscape.

<https://propakistani.pk/2024/11/01/lhc-backs-ccps-role-in-regulating-competition-dismisses-challenge/>

Bloom Pakistan

Court backs CCP's role in regulating competition, dismisses challenge

Court backs CCP's role in regulating competition, dismisses challenge. In a landmark decision, the Lahore High Court, led by Justice Jawad Hassan, has upheld the validity of show-cause notices issued by the Competition Commission of Pakistan (CCP) in the poultry matter concerning price fixing of day-old chicks. The decision reaffirms CCP's authority to pursue investigations and act against monopolistic practices, ensuring a competitive market environment.

Referring to the legal doctrine of "ripeness", he ruled that cases should proceed through CCP hearings, allowing appeals only after the CCP's final decision. The judgment clarifies the CCP's jurisdiction, safeguarding its autonomy to enforce competition laws without undue interference.

The court noted that obstructing CCP functions could hinder the Commission's role in preventing anticompetitive practices and promoting fair business competition. Justice Hassan underscored the

judiciary's duty to support regulatory bodies like the CCP in upholding competitive integrity across industries.

However, the CCP's legal team, comprising Barrister Asad Ullah Chatha, CCPs legal advisors, Barrister Ambreen Abbasi, Hafiz Muhammad Naem and Hassan Raza, challenged the maintainability of the petition, a position the court ultimately upheld.

However, the poultry companies M/s Sadiq Poultry and M/s Islamabad Feeds challenged the show-cause notices and has secured a stay order, temporarily halting CCP's proceedings. This comprehensive 21-page judgment now stands as a precedent, strengthening the CCP's authority to enforce anti-trust laws and foster fair competition within Pakistan's economic landscape.

CCP Chairman Dr. Kabir Sidhu has strategically strengthened the CCP's legal team to enhance its capability in dealing complex competition cases and regulatory challenges. This overhaul has improved efficiency, and prioritized resolution of legal backlogs. The resolution of cases resulted in recovery of Rs100 million from businesses involved in anti-competitive practices.

<https://www.bloompakistan.com/court-backs-ccps-role-in-regulating-competition-dismisses-challenge/>

فرمان رسول
اس دن ملک رحمتی اللہ سے ہوتے رہتے
ہے ہمیں سب کو ایک ہی گھر میں رکھنے کے
لیئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں
پائے میں تازہ دلی اور اس میں آجپائے
رہی اور کوشت کے لئے لی کوشت کی اور
زیادہ رحمتی اللہ تعالیٰ سے ہمیں
فرمان رکھتی ہیں اور آج ہمیں گھر کا
اللہ سے آج ہمیں گھر کا
(پاکستان کے صدر کے نام سے)
**Barkat Rice Mills
(Pvt) Limited**

A Leading National Daily
**ABC
Certified**

**Daily
The Spokesman**
RAWALPINDI

UN chief slams deadly attack in Mastung, urges action against those responsible
UN Secretary-General Antonio Guterres strongly condemned Friday's attack in Pakistan Balochistan province, and called on the government to ensure that the perpetrators are held accountable. Nine people, including five school children, were killed and 23 others injured in the bomb attack.

Trump's fraud claims revive fears he may again seek to overturn election results
False claims about voter fraud in Pennsylvania have raised concerns that Republican presidential candidate Donald Trump may once again seek to overturn the vote there or in other battleground states likely to determine the winner next Tuesday. Opinion polls, both nationally and in the seven closely divided states, show Trump locked in a tight race with Democratic Vice President Kamala Harris with four days to go before election day.

Simultaneously published from Islamabad, Lahore and Multan

Rabi-us-Sani 29, Saturday, November 2, 2024 www.dailyspokesman.net @daily_spokesman Daily Spokesman Vol: 18, Issue: 200 Price Rs. 25.00 Pages 8

Court backs CCP's role in regulating competition, dismisses challenge

Commerce Desk

ISLAMABAD: In a landmark decision, the Lahore High Court, led by Justice Jawad Hassan, has upheld the validity of show-cause notices issued by the Competition Commission of Pakistan (CCP) in the poultry matter concerning price fixing of day-old chicks. The decision reaffirms CCP's authority to pursue investigations and act against monopolistic practices, ensuring a competitive market environment.

Justice Jawad Hassan emphasized that a show-cause notice issued on the basis of an inquiry report cannot be prematurely



contested in the High Court. Referring to the legal doctrine of "ripeness", he ruled that cases should proceed through CCP hearings, allowing appeals only after the CCP's final decision. The judgment clarifies the CCP's jurisdiction, safeguarding its autonomy to enforce competition laws without undue interference.

The CCP investigated suspected collusion and price-fixing by eight hatcheries for

day-old broiler chicks from 2019 to June 2021. Forensic analysis revealed that prices were coordinated via SMS and WhatsApp by an official of a member firm. The Pakistan Poultry Association (PPA) was also found in possible violation of Section 4 of the Competition Act for involvement in pricing discussions. However, the poultry companies M/s Sadiq Poultry and M/s Islamabad Feeds challenged the show-cause notices and has secured a stay order, temporarily halting CCP's proceedings. This comprehensive 21-page judgment now stands as a precedent, strengthening the CCP's authority to enforce anti-trust

laws and foster fair competition within Pakistan's economic landscape.

CCP Chairman Dr. Kabir Sidhu has strategically strengthened the CCP's legal team to enhance its capability in dealing complex competition cases and regulatory challenges. This overhaul has improved efficiency, and prioritized resolution of legal backlogs. As a result, over 40 cases have been resolved by Competition Appellate Tribunal (CAT), High Courts and Supreme Court of Pakistan. The resolution of cases resulted in recovery of Rs100 million from businesses involved in anti-competitive practices.



لاہور ہائیکورٹ کے ن مسابقت کمیشن کی انکوائری کیخلاف پولی کمپنیوں کا اسٹ خارج کردیا

تازہ ترین رینقومی خ میں 01 نومبر، 2024 لمحہ ہا لمحہ قومی خ بینب ی الاقوامی خ بینتجارت خ بینکھیلوں کی خ بینان ہئینمنٹصحتدلچسپ و عجیبخاص رپورٹ لاہور ہائیکورٹ ن مسابقت کمیشن کی انکوائری کیخلاف پولی کمپنیوں کا اسٹ خارج کردیا

عدالت عالیہ لاہور ن مسابقت کمیشن کی انکوائری کے خلاف پولی کمپنیوں کا اسٹ خارج کردی ا۔ مسابقت کمیشن کے اعلامت کے مطابق لاہور ہا ت کورٹ ن کمیشن کو پولی کمپنیوں کی انکوائری مکمل کرن کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت عالیہ ن کہا کہ ریگولی ہ ادارے کی انکوائری کے دوران عدالت سے رجوع نہ ی کی اجاسکتا۔ سیل اور ڈسکاؤنٹ کے گمراہ گن اعلانات پر 20 مختلف برانڈز کو نوٹس جاری

جسٹس جواد حسن ن کہا کہ ریگولی ہ اتھارٹ کا آرڈر جاری ہون کے بعد عدالت سے ریلیف کے ت رجوع کی اجاسکتا ہے۔ انہوں ن مزی د کہا کہ مارکیٹس م ی کارٹل اور کاروباری گٹھ جوڑ کے خلاف کارروا ت کرنا مسابقت کمیشن کا بنیادی مینڈیٹ ہے۔

یاد رہے کہ مسابقت کمیشن ن چوزوں کی قیمت ی فکب س سے ک گرٹ ن ہپ ر جیولڑ بکی واضکمینح ثوں وکت

حاصخلاف ل ہو انکوائری شوع کی تھی۔ مسابقت کمیشن کو تحقیقات کے دوران پولری ایسوسی ایشن کے دف ن ہ ی۔

مسابقت کمیشن کی انکوائری اور شوکاز نوٹس کے اجرا پر چند پولی کمپنیوں ن عدالت سے حکم امتناعی لی اتھا

<https://jang.com.pk/news/1406814>



چوزے کی قیمت! پولٹری کمپنیوں کو دیا حکم امتناعی خارج

اسلام آباد (ارشاد انصاری سے) لاہور ہائی کورٹ نے مسابقتی کمیشن کو پولٹری کمپنیوں کے خلاف میسج جوڑنا کر چوزے کی قیمت مقرر کرنے کیخلاف کارروائی کی اجازت دیتے ہوئے پولٹری کمپنیوں کو دیا گیا حکم امتناعی خارج کر دیا۔ عدالت نے واضح کیا کسی ریگولیٹری ادارے کی جانب سے انکوآری کے دوران نہیں بلکہ حکم جاری ہونے کے بعد رجوع کیا جاسکتا ہے۔ جسٹس جواد نے واضح کیا مارکیٹوں کو ریگولیٹ کرنا، کارٹل اور کاروباری گھ جوڑ کے خلاف کارروائی اور مقابلے کی فضا برقرار رکھا مسابقتی کمیشن کا بنیادی منشور ہے، جسے چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔ واضح رہے مسابقتی کمیشن نے چوزے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر نوٹس لیتے ہوئے پولٹری نیچروں کے خلاف تحقیقات شروع کی تھی، اس دوران قیمتیں بڑھانے کے واضح ثبوت ملے۔ تاہم چند پولٹری کمپنیوں نے حکم امتناعی حاصل کر لیا، جسے مسابقتی کمیشن نے چیلنج کر رکھا تھا۔

https://www.express.com.pk/epaper/PoPupwindow.aspx?newsID=1111299813&Issue=NP_LHE&Date=20241102



مسابق ت کمیشن کی انکوآری کیخلاف بول ٹی کمپنیوں کا حکم امتناع خارج

لاہور ڈیلی پاکستان آن لائن (لاہور ہائی کورٹ ن پولٹری کمپنیوں کی جانب سے مسابق ت کمیشن کی انکوآری کے خلاف دائر کٹ گٹ

حکم امتناع کو خارج کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں مسابق ت کمیشن کو پولٹری کمپنیوں کے خلاف انکوآری مکممل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔

عدالت نے اس فیصلے میں واضح کیا کہ انکوآری کے دوران ریگولیٹری ادارے کے خلاف عدالت سے رجوع نہ کی جاسکتا۔ جسٹس

"جواد حسن نے کہا کہ "ریگولیٹری اتھارٹی کا آرڈر جاری ہونے کے بعد ہی عدالت سے ریلیف کے لئے رجوع کی جاسکتا ہے۔"

جسٹس جواد نے مزید کہا کہ "مارکیٹوں میں کارٹل اور کاروباری گھ جوڑ کے خلاف کارروائی کرنا مسابق ت کمیشن کا بنیادی مینڈیٹ

" ۵۔

مچکمنسیادب بق وشنل رت ب ن کمیپ یولرکمپنشن یکا ونک ہن ان ۷۷ عہ کہ دالت چوسے زو حکمی ب قیسے مت گٹ یا امتناعی ہف کجوسٹر حاصل رکے کرن ولاپی ارض پحولث تھا۔ ب بوی ت ہبیچھی ریوں کے حاصل ک ٹخلاف ۔ انکوائ

رانکوائی ری اور شو شوع کاز کی تھینوٹس۔ کے انکوائی اجراء ی کے بعد دوران بی ایسوسی ایشن کے دف

<https://dailypakistan.com.pk/01-Nov->

[2024/1770816](https://dailypakistan.com.pk/01-Nov-2024/1770816)



لاہور ہائی کورٹ نے مسابقت کمیشن کی انکوائی کے خلاف پول ٹی کمپنیوں کا حکم امتناعی خارج کر دی ا
، کمیشن کو انکوائی ری مکمل کر کے کی اجازت

اسلام آباد۔ 1 نومبر (اے ت ت): لاہور ہائی کورٹ نے مسابقت کمیشن آف پاکستان کو پول ٹی کمپنیوں کے خلاف مبینہ گتھ
جوڑ بنا کر ایک دن کے چوزے کی قیمت فکس کرن کے خلاف کارروا ت کی اجازت دی ت ہون پول ٹی کمپنیوں کی جانب سے لی
ا گی احکم امتناعی

نہ ی خارج کی اگر دجای اے۔ سکتا عدالبلکہ تری ن گولیر حکم نامہ م ی واضح کی اے کہ کسی ری نگول ی کے ب بی عد
ہیادارے کی عدالت جانب سے ریسل یف انکوائی کے لی ٹ کے رجوع کدوران ی اجا عدالت سکتا سے

۷۷۔ رجوع بی ادارے کی جانب سے آرڈر جاری ہو

جسٹس جواد ن اپ ت حکم م ی واضح کی اے کہ ملک م ی مارکیٹوں کو ریگولیٹ کرنا، کارٹل اور کاروباری گتھ جوڑ کے خلاف
کارروا ت

ہفایککرنا ستاصلہ اورن م ی مارکلیکھٹا ۷۷ ی کہ مقابلے کی فعدالتوں ضاکو کو برقمتمعلقہرار ریرکھگولنیا ر مبیس ابق ت اداروں
کمیکو شنان کے آف فرائض پاکستان کی کا بنیانجامادی م دہبی م نڈی ی بٹ سیپے وہہ ریچٹج رکیسر نا ونچ ے بکے۔ لنجم نہس
ابی ق خلاف کت یان اکمیجاکوائی ریشن سکتا۔ آف

ن ایک دن کے چوزے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے پولر شوک کی تھی۔ تحقیقات کے دوران پاکستان پولر بی ایسوسی ایشن کے دف ب سے پولر بی کمپنیوں کے گٹھ جوڑ کر کے قیمت ی بڑھانے کے واضح ثبوت حاصل ہوئے۔ تاہم انکوائری اور شوکاز نوٹس کے اجراء پر چند پولر بی کمپنیوں نے عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر لیا۔

مسابقہ ت کمیشن نے پولر بی کمپنیوں کے اس حکم امتناعی کو چیلنج کر رکھا تھا۔ پولر بی کمپنیوں کے وکیل نے دلائل دیے تے ہوئے کہا کہ کمیشن کے شوکاز نوٹس کے طریقہ کار میں غلطیاں ہیں تاہم مسابقہ ت کمیشن کی قانونی ٹیم جس میں بی بی اسد اللہ چٹھہ اور کمیشن کے قانونی مشیر بی بی عنین عباسی، حافظ محمد نعیم اور حسن رضا شامل تھے نے حکم امتناع کو چیلنج کیا۔

عدالت نے کمپٹیشن کمیشن کے انکوائری کرنے اور شوکاز کرنے کے حق کو برقرار رکھا اور جامع فیصلہ دیا۔ مسابقہ ت کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر سید نے مارکیٹ میں کمپٹیشن کے نہایت پیچیدہ مقدمات اور ریگولیٹری قانونی مسائل سے نمٹنے میں ادارے کی لیگل ڈیپارٹمنٹ کو مضبوط اور مستحکم کیلئے اے تا کہ مقدمات کی فعال پبلیسی کی جاسکے۔ گزشتہ ایک سال میں کمپٹیشن اپیلٹ ریبنل

(دسی کوئے روتور) ہوائے ن ت مکالویرٹس کے ورس بیج جرمانون کی کورٹ آف صولی ہوئے۔ پاکستان سے 40 سے زیادہ مقدمات کے فیصلے ہوئے جس کے نتیجے میں قومی خزانے میں

<https://urdu.app.com.pk/urdu/%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1-%DB%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%B9-%D9%86%DB%92-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%A9/>



لاہور پائ کورٹ نے مسابقہ ت کمیشن کی انکوائری کے خلاف پولر بی کمپنیوں کا حکم امتناعی خارج کر دیا، کمیشن کو انکوائری مکمل کرنے کی اجازت

کمپنی اسلام آباد (آردو پوخلافا ٹمبیٹ نہا خباگتھرت ازہ تجوڑ ریبنان - کراچی تک ت دن۔ کے 01 نوم ب چوزے کی ق 2024
ء) متلا
فہکور
پسا کت
رک نو
رکٹ خ
ن لامفس
اکباقر رت

وا تکم
یکی شن
آف اجازت
پادکی تس
تاہنو کو
پول بی ن
پول بی

سے کمپنیوں انکوائری کے جانب سے دوران لی اگی عدالت حکم سے رجوع امتناعی نہ ی کخارجی اکر جادی اسکناہ۔ عدلکہال
ریت گول یئر بحیک م نامہادارے م کی ی جانب واضح کیسے ی اے پآرڈر کہجا رکی سیہ وری ن گولیکے ب بی د ہی ادارے عداکی
لت سے جانب ریلیف کے ل ت رجوع کی اجا سکتا ہے۔

جسٹس جواد ن اپ ت حکم م ی واضح کی اے کہ ملک م ی مارکیٹوں کو ریگولیت کرنا، کارٹل اور کاروباری گٹھ جوڑ کے خلاف
کارروا ت کرنا اور مارکیٹ م ی مقابلے کی فضا کو برقرار رکھنا مسابقت کمیشن آف پاکستان کا بنیادی مینڈیٹ ہے جسے چیلنج نہ
ی کی اجا سکتا۔ فیصلہ م ی لکھا ہے کہ عدالتوں کو متعلقہ ریگولی بی اداروں کو ان کے فرائض کی انجام دہی م ی سپورٹ کرنا
ہے۔

مسابقت کمیشن آف پاکستان ن ایک دن کے چوزے کی قیمتوں م ی مسلسل اض اف کی شکایات پر نوٹس لی ت ہون پول بی
بیج ریوں کے خلاف انکوائری شوع کی تھی۔ تحقیقات کے دوران پاکستان پول بی ایسوسی ایشن کے دف ب سے پول بی کمپنیوں
کے گٹھ جوڑ کر کے قیمت ی بڑھ ان کے واضح ثبوت حاصل ہو ن۔ تاہم انکوائری اور شوکاز نوٹس کے اجراء پر چند پول بی
کمپنیوں ن عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر لی ا۔

مسابقت کمیشن ن پول بی کمپنیوں کے اس حکم امتناعی کو چیلنج کر رکھا تھا۔ پول بی کمپنیوں کے وکیل ن دلائل دی ت ہو
ن کہا کمیشن کے شوکاز نوٹس کے طریقہ کار م ی غلطیاں ہ ی تاہم مسابقت کمیشن کی قانون ت تیم جس م ی ب بس ب اسد
اللہ چٹھہ اور کمیشن کے قانون ت مش ب ب بس ب عن بین عباسی، حافظ محمد نعیم اور حسن رضا شامل تھے ن حکم امتناع
کو چیلنج کی ا۔

عدالت ن کمپٹیشن کمیشن کے انکوائری کر ن اور شوکاز کر ن کے حق کو برقرار رکھا اور جامع فیصلہ دی ا۔ مسابقت کمیشن کے
چی ہم ی ڈاک ب کب ب سدھو ن مارکیٹ م ی کمپٹیشن کے نہایت پیچیدہ مقدمات اور ریگولی بی قانون ت مسائل سے نمٹ
م ی ادارے کی لیگل

(دڈیسی کواے رپائمنٹو تڑکو)، ہواے ن مالیمضبوط ت اور کے مستحکمجرمانوں کیکی ا کے تاکوصولیہ ہمقو دما ت کی

فعال پ ب وی کی جاسکے۔ گزشتہ ایک ن جسال سم یکے نئی کمپٹیج م شن ی ایپقومیلٹ ٹخ ریزا ن مبولن ی ت کورٹس

اور س بیم کورٹ آف پاکستان سے 40 سے زیادہ مقدمات کے فیصلے ہوت -

<https://www.urdupoint.com/daily/livenews/2024-11-01/news-4213386.html>

